

<p>УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР ТА СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Silver Sky Diving Albania" shpk</p> <p>Терміни у цьому Статуті:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Закон" - Закон № 9901 від 14.04.2008 р. "Про підприємців та комерційні компанії" - "Статут" - це Статут компанії 	<p>FOUNDING AGREEMENT AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF LIMITED LIABILITY COMPANY "Silver Sky Diving Albania" shpk</p> <p>Terms in this Articles of Association:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Law" - Law No. 9901 dated April 14, 2008 "On Entrepreneurs and Commercial Enterprises" - "Statute" is the Articles of Association of the Company 	<p>AKT I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR "Silver Sky Diving Albania" shpk</p> <p>Në këtë statut dhe akt themelimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare"; - "Statuti" është Statuti i Shoqërisë;
<p>Розділ I Утворення, власність, предмет та строк діяльності, місцезнаходження</p>	<p>Section I Formation, ownership, subject and period of activity, location</p>	<p>Seksioni I Themelimi, Zoterimi, Objekti, Kohëzgjatja, Selia</p>
<p>Стаття 1 Дата заснування, назва та засновники</p> <p>1.1 Сьогодні, 28.03.2023 року, засновник заснував товариство з обмеженою відповідальністю з назвою "Silver Sky Diving Albania" shpk.</p> <p>1.2 Засновником компанії є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільвер Скай Дайвінг", ідентифікаційний номер 44685896, юридична адреса: 08293, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Гоголя, 12-з, в особі Виконавчого директора Селіверстова Сергія Миколайовича, громадянина України, паспорт СІО № 344468, від 26.04.2014 року, виданий Токмацьким РВ УДМС України в Запорізькій області, який діє на підставі Статуту ТОВ «Сільвер Скай Дайвінг», та з повною дієздатністю. 	<p>Article 1 Date of establishment, name and founders</p> <p>1.1 Today on 28.03.2023, the founder established a limited liability company named "Silver Sky Diving Albania" shpk.</p> <p>1.2 The founder of the company is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limited liability company "Silver Sky Diving" with number of identification 44685896 and adress in Ukraine, Kyiv region, Bucha, Gogolya str., 12-z in the person of the Executive Director Seliverstov Sergii Mykolayovych, a citizen of Ukraine, passport CIO No. 344468, dated April 26, 2014, issued by the Tokmachy DM of the MIA of Ukraine in the Zaporizhzhia Region, which operates under the Statute of Silver Sky Diving LLC, and with full capacity. 	<p>Neni 1 Data e Themelimit, Emri dhe Ortakët Themelues</p> <p>1.1 Sot, më 28.03.2023 themeluesi, ka krijuar nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur "Silver Sky Diving Albania" shpk.</p> <p>1.2 Themeluesi i shoqerise eshte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Silver Sky Diving" LLC me numer identifikimi 44685896 dhe adrese ne Ukraine, Kyiv region, Bucha, Gogolya str., 12-z, perfaqesuar nga administratori Seliverstov Sergii Mykolayovych, shtetas i Ukraines me pasaporte CIO Nr. 344468, date 26 Prill 2014, leshuar nga Tokmachy DM e MIA Ukraine ne Rajonin Zaporizhzhia, qe operon sipas statutit te Silver Sky Diving llc dhe me zotesi te plote juridike.
<p>Стаття 2</p>	<p>Article 2</p>	<p>Neni 2</p>

<p>Предмет</p> <p>2.1 Компанія буде здійснювати наступні види діяльності: морські послуги, підводні гідри, курси дайвінгу, послуги підводного морського туризму та туризму у водоймах будь-якого типу, курси плавання, туроператорська діяльність, продаж будь-якого спорядження для дайвінгу та водних видів спорту тощо.</p> <p>Компанія може здійснювати будь-яку іншу господарську діяльність, яка не заборонена чинним законодавством Республіки Албанія.</p>	<p>Subject</p> <p>2.1 The company will carry out the following activities: Marine services, underwater guides, diving courses, services of underwater marine tourism and tourism in water bodies of any type, swimming courses, tour operator activities, sale of any equipment for diving and water sports, etc.</p> <p>The company can carry out any other economic activity that is not prohibited by the current legislation of the Republic of Albania.</p>	<p>Objekti</p> <p>2.1 Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm: Shërbime detare, guida nenujore, kurse zhytjeje, shërbime të turizmit detar nenujor dhe turizmit në trupë ujor të çdo lloji, kurse noti, aktivitete operatore turistike, shitje të çdo pajisjeje për zhytje dhe sporte ujore etj.</p> <p>Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi, i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.</p>
<p>Стаття 3 Строк діяльності</p> <p>3.1 Строк діяльності компанії буде безстроковим.</p> <p>Стаття 4 Юридичне місцезнаходження</p> <p>4.1 Юридична адреса компанії знаходиться за адресою: «вулиця Паваресія, мікрорайон Сकेле, будинок № 2, апартаменти № 34, сьомий поверх, кадастрова зона 8603, місто Вльора, Республіка Албанія».</p> <p>4.2 Збори акціонерів можуть відкривати та закривати вторинні адреси, дочірні компанії, представництва або філії, офіси в Албанії або за кордоном.</p>	<p>Article 3 Terms of activity</p> <p>3.1 The term of the company's activity will be termless.</p> <p>Article 4 Legal jurisdiction</p> <p>4.1 The legal address of the company is located at the address "Rruga Pavaresia, Lagjja Skele, Ndertesa nr.2 Apartamenti. Nr.34, kati i shtate, zona kadastrale 8603, Vlore, Shqiperi"</p> <p>4.2 The meeting of shareholders may change the secondary addresses, subsidiaries, representative offices or branches, offices in Albania or abroad.</p>	<p>Neni 3 Kohezgjatja</p> <p>3.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë me afat të pacaktuar.</p> <p>Neni 4 Selia</p> <p>4.1 Selia e shoqërisë ndodhet në adresën "Rruga Pavaresia, Lagjja Skele, Ndertesa nr.2 Apartamenti. Nr.34, kati i shtate, zona kadastrale 8603, Vlore, Shqiperi".</p> <p>4.2 Asambleja e ortakëve mund të hapë ose të mbyllë adresë dytësore, filiale, zyra përfaqësimi ose degë, zyra në Shqipëri ose jashtë.</p>
<p>Розділ II Капітал</p>	<p>Section II Share capital</p>	<p>Seksioni II Kapitali Themeltar</p>
<p>Стаття 5 Основний капітал</p> <p>5.1 Початковий основний капітал Товариства складається з 1</p>	<p>Article 5 Fixed capital</p> <p>5.1 The initial capital of the Company consists of 1 (one) share</p>	<p>Neni 5 Kapitali themeltar</p> <p>5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1(një) kuotë me vlerë</p>

<p>(однієї) акції вартістю 2,000,000 (два мільйони) леків, яка не оплачується.</p> <p>5.2 Участь засновників в основному капіталі товариства відповідно до їх внесків розподіляється наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ТОВ "Silver Sky Diving" - власник 1 (однієї) частки вартістю 2,000,000 (два мільйони) леків, що становить 100% капіталу товариства. 	<p>with a value of 2,000,000 (two million) leke, which is unpaid.</p> <p>5.2 The share of the founders in the company's capital in accordance with their contributions is distributed as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LLC "Silver Sky Diving" - the owner of 1 (one) share worth 2,000,000(two million) leke, which is 100% of the company's capital. 	<p>prej 2,000,000(dymilion) lekë, i cili nuk është paguar.</p> <p>5.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Silver Sky Diving" LLC me numer identifikimi 44685896" – titullar i 1(nje) kuote prej 2,000,000(dymilion) lekë qe perben 100% te kapitalit te kompanise.
<p>Стаття 6 Збільшення та зменшення капіталу</p> <p>6.1 Капітал Товариства може бути збільшений шляхом підписки на частини основного капіталу для внесків у грошовій формі, а для внесків у натуральній формі шляхом призначення компетентним судом уповноваженого експерта для цих внесків відповідно до вимог Адміністратора.</p> <p>6.2 Більшість не може зобов'язати учасника збільшити свій внесок до основного капіталу товариства.</p> <p>6.3 Зменшення капіталу дозволяється Загальними зборами, які приймають рішення на тих же умовах, що і для внесення змін до Статуту.</p> <p>6.4 У будь-якому випадку зменшення капіталу впливає на акціонерів у тій же мірі, що і на їхні відповідні частки в капіталі.</p>	<p>Article 6 Capital increase and decrease</p> <p>6.1 The capital of the Company may be increased by subscribing to parts of the capital stock for contributions in cash, and for contributions in kind by appointing an authorized expert for these contributions by a competent court in accordance with the requirements of the Administrator.</p> <p>6.2 The majority cannot oblige a participant to increase his contribution to the company's share capital.</p> <p>6.3 Capital reduction is permitted by the General Meeting, which makes decisions under the same conditions as for amendments to the Statute.</p> <p>6.4 In any case, the reduction of capital affects the shareholders to the same extent as their respective shares in the capital.</p>	<p>Neni 6 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit</p> <p>6.1 Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga asambleja e përgjithshme e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.</p> <p>6.2 Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur kontributin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.</p> <p>6.3 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila vendos në të njëjtat kushte që kërkohen për modifikimin e statutit.</p> <p>6.4 Në të gjitha rastet zvogëlimi prek kapitalin e ortakëve në të njëjtën masë të pjesëve të kapitalit që ata përfaqësojnë.</p>
<p>Стаття 7 Передача акцій</p> <p>7.1 Акції Товариства та права, які вони надають, набуваються або передаються через</p>	<p>Article 7 Transfer of shares</p> <p>7.1 The Company's shares and the rights they provide are acquired or transferred through:</p>	<p>Neni 7 Transferimi i kapitalit</p> <p>7.1 Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre janë lirisht të</p>

<p><input type="checkbox"/> - для фізичної особи - в порядку спадкування у разі смерті або якщо вони передаються дружині/чоловіку акціонера чи його нащадкам;</p> <p><input type="checkbox"/> для юридичної особи, якщо передача здійснюється акціонерам компаній-учасників (дочірніх підприємств) або пов'язаним з акціонером юридичній особі. Цей випадок також передбачає можливість здійснення операцій перетворення, злиття або поділу чи поглинання компаній.</p> <p>7.2 У всіх інших випадках передачі акцій акціонери мають право вибору та переваги.</p> <p>7.3 У будь-якому випадку, передача частки капіталу від акціонера повинна бути оформлена нотаріальним актом.</p>	<p><input type="checkbox"/> - for an individual - in the order of inheritance in case of death or if they are transferred to the shareholder's wife/husband or his descendants;</p> <p><input type="checkbox"/> for a legal entity, if the transfer is made to shareholders of participating companies (subsidiaries) or to a legal entity related to the shareholder. This case also provides for the possibility of transformation, merger or division or takeover of companies.</p> <p>7.2 In all other cases of transfer of shares, shareholders have the right of choice and preference.</p> <p>7.3 In any case, the transfer of a share of capital from a shareholder should be formed by a notarial deed.</p>	<p>transferueshme si në rastet më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> - në rastin e ortakut person fizik, per efekt të trashëgimisë në rast vdekje apo nëse transferohen të bashkeshorti apo pasardhësëve të ortakut; - në rastin e ortakut person juridik nëse transferimi bëhet te ortakët e shoqërive pjesmarrëse (filialet) apo të lidhura me ortakun person juridik. Ky rast parashikon edhe mundësinë e operacioneve të mundshme të transformimit, bashkimit apo ndarjes apo blerjeve së shoqërive. <p>7.2 Në të gjitha rastet e tjera të transferimit të kuotave, i përket ortakëve e drejta e zgjedhjes dhe e preferencës.</p> <p>7.3 Në cdo rast transferimi i kuotave te kapitalit nga ortakun duhet të bëhet me akt noterial.</p>
<p>Розділ III Інституції, що приймають рішення</p>	<p>Section III Decision-making institutions</p>	<p>Seksioni III Organet e Shoqërise</p>
<p>Стаття 8 Орган прийняття рішень</p> <p>8.1 Загальні збори акціонерів є єдиним органом Товариства, що приймає рішення.</p> <p>8.2 Загальні збори акціонерів є єдиним органом прийняття рішень Товариства, який затверджує будь-які зміни до Статуту у порядку, передбаченому Законом.</p> <p>8.3 Загальні збори приймають рішення з наступних питань діяльності Товариства:</p> <p>a) Визначення політики діяльності Товариства;</p> <p>b) внесення змін до Статуту</p>	<p>Article 8 Decision-making body</p> <p>8.1 The general meeting of shareholders is the sole decision-making body of the Company.</p> <p>8.2 The general meeting of shareholders is the only decision-making body of the Company, which approves any changes to the Statute in the manner prescribed by the Law.</p> <p>8.3 General meetings make decisions on the following issues of the Company's activities:</p> <p>a) Determination of the Company's activity policy;</p> <p>b) making changes to the Statute</p> <p>c) election and dismissal of Administrators</p>	<p>Neni 8 Organet Vendimarrëse</p> <p>8.1 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.</p> <p>8.2 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.</p> <p>8.3 Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:</p> <p>a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;</p> <p>b) ndryshimet e statutit;</p>

<p>c) обрання та звільнення Адміністраторів</p> <p>d) обрання та звільнення незалежних аудиторів та ліквідаторів</p> <p>e) встановлення розміру винагороди особам, зазначеним у пунктах "в" та "з";</p> <p>f) Моніторинг та нагляд за реалізацією бізнес-політики Керуючими директорами, включаючи підготовку річного звіту про фінансовий стан та звіту про результати діяльності;</p> <p>g) Затвердження річного звіту про фінансові результати та звіту про діяльність;</p> <p>h) Збільшення та зменшення основного капіталу;</p> <p>i) Розподіл акцій на частини та вилучення акцій;</p> <p>j) Представництво компанії в суді та в інших провадженнях проти керуючих директорів;</p> <p>к) реструктуризація та ліквідація компанії;</p> <p>l) прийняття власних правил процедури;</p> <p>м) інші питання, визначені законом або Статутом.</p>	<p>d) election and dismissal of independent auditors and liquidators</p> <p>e) determining the amount of remuneration to the persons specified in clauses "c" and "f";</p> <p>f) Monitoring and supervision of the implementation of the business policy by the Managing Directors, including the preparation of the annual report on the financial condition and the report on the results of operations;</p> <p>g) Approval of the annual report on financial results and the activity report;</p> <p>h) Increase and decrease of fixed capital;</p> <p>i) Distribution of shares into parts and withdrawal of shares;</p> <p>j) Representation of the company in court and in other proceedings against the managing directors;</p> <p>k) Restructuring and liquidation of the company;</p> <p>l) Adoption of own rules of procedure;</p> <p>m) Other issues determined by law or the Statute.</p>	<p>c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;</p> <p>d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;</p> <p>e) përcaktimin e shperblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "f" të kësaj pike;</p> <p>f) ekzaminimin e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë të përgatitur nga administratorët;</p> <p>g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore;</p> <p>h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;</p> <p>i) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;</p> <p>j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera;</p> <p>k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;</p> <p>l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;</p> <p>m) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.</p>
<p>8.4 Акціонер може бути представлений на Загальних зборах іншим акціонером, уповноваженим ним, або іншою третьою особою. Повноваження можуть бути надані лише на одне засідання Загальних зборів, яке включає також наступні засідання з тим самим порядком денним.</p>	<p>8.4 A shareholder may be represented at the General Meeting by another shareholder authorized by him/her or by another third party. Authority may be granted for only one meeting of the General Assembly, which also includes subsequent meetings with the same agenda.</p>	<p>8.4 Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi me shkrim, nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.</p>
<p>8.5 Адміністратор товариства не може бути представником учасників на загальних зборах.</p>	<p>8.5 The administrator of the company cannot be a representative of the participants at the general meeting.</p>	<p>8.5 Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.</p>

<p>Стаття 9 Порядок скликання Загальних зборів</p> <p>9.1 Загальні збори скликаються у випадках, передбачених Законом, Статутом, а також у випадках, коли скликання зборів є необхідним для захисту інтересів товариства.</p> <p>9.2 Загальні збори скликаються шляхом письмового повідомлення на адресу, вказану в Книзі учасників, або шляхом повідомлення за допомогою завіреної електронної пошти, надісланої всім учасникам. Повідомлення надсилається щонайменше за 7 (сім) днів до запланованої дати проведення засідання Зборів.</p> <p>9.3 Повідомлення повинно містити інформацію про тип зборів, місце, дату, час проведення зборів та порядок денний для першого та другого скликання. Збори також можуть бути скликані за межами головного офісу компанії.</p> <p>9.4 Асамблея скликається і проводиться регулярно, навіть якщо формальність повідомлення про неї не була дотримана, в той момент, коли на ній присутні партнери, які представляють весь соціальний капітал.</p> <p>9.5 Партнери також можуть брати участь в Асамблеї за допомогою телеконференції або інших електронних засобів за умови, що всі учасники будуть ідентифіковані та зможуть стежити за ходом дискусії і брати безпосередню участь у вирішенні питань порядку денного, а також матимуть можливість вивчати</p>	<p>Article 9 The procedure for convening the General Assembly</p> <p>9.1 General meetings are convened in cases provided by the Law, the Statute, as well as in cases when convening meetings is necessary to protect the interests of the company.</p> <p>9.2 General Meetings shall be convened by written notice to the address specified in the Book of Members or by notice by means of the authorized e-mail sent to all members.</p> <p>The notification is sent at least 7 (seven) days before the scheduled date of the Meeting.</p> <p>9.3 The notice should contain information about the type of meeting, place and date, time of the meeting and the agenda for the first and second convocations. Meetings may also be held outside the company's head office.</p> <p>9.4 The assembly is convened and held regularly, even if the formality of the notification about it has not been observed, when partners representing the entire social capital are present.</p> <p>9.5 Partners may also take part in the Assembly by telephone conference or other electronic means, provided that all participants are identified and will be able to monitor the progress of the discussion and participate directly in the resolution of issues on the agenda. As well as have the opportunity to study or receive documentation and transfer it, and finally, regularly participate in voting and decision-making.</p>	<p>Neni 9 Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme</p> <p>9.1 Asambleja e përgjithshme thirret në rastet e parashikuara nga Ligji, nga Statuti dhe cdo herë që asambleja bëhet e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.</p> <p>9.2 Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë në adresën që rezulton nga Libri i Ortakëve ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike e certifikuar që u dërgohet të gjithë ortakëve.</p> <p>Njoftimi dërgohet të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.</p> <p>9.3 Njoftimi duhet të përmbajë informacion mbi tipin e asamblesë, vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës për thirrjen e parë dhe thirrjen e dytë. Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.</p> <p>9.4 Asambleja do të thirret dhe do të mbahet rregullisht edhe kur nuk janë respektuar formalitetet e njoftimit të saj, në momentin kur, janë prezent ortakët, të cilët përfaqësojnë kapitalin e plotë social.</p> <p>9.5 Ortakët mund të marrin pjesë në Asamble edhe nëpërmjet telekonferencë ose nëpërmjet përdorimit të mjeteve të tjera elektronike me kusht që të jenë të identifikuar të gjithë të pjesëmarrësit dhe të jetë e mundur që të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë drejtëpërsëdrejti në trajtimin e rendit të ditës si dhe të kenë mundësi të shqyrtojnë apo të marrin dokumentacionin dhe ta transmetojnë atë dhe në fund te</p>
--	--	--

<p>або отримувати документацію та передавати її, і, нарешті, регулярно брати участь у голосуванні та прийнятті рішень.</p>		<p>marrin rregullisht pjesë në votim dhe në vendimarrje.</p>
<p>Стаття 10 Кворум</p> <p>10.1 У разі прийняття рішень, які вимагають простої більшості голосів, загальні збори можуть приймати дійсні рішення лише за умови участі акціонерів з правом голосу, які володіють більшістю статутного капіталу.</p> <p>10.2 У випадку, якщо загальні збори мають вирішувати питання, пов'язані зі зміною статуту, діями, що спричиняють докорінну зміну предмета діяльності або істотну зміну прав акціонерів, призначенням ліквідаторів та критеріями проведення ліквідації, операціями перетворення, злиття або поділу, збори можуть приймати дійсні рішення лише за умови присутності на зборах акціонерів, що володіють більш ніж половиною голосів.</p> <p>10.3 Якщо загальні збори не можуть бути скликані через відсутність кворуму, зазначеного вище, збори скликаються повторно не пізніше ніж через 30 днів з тим самим порядком денним.</p>	<p>Article 10 Quorum</p> <p>10.1 In the case of making decisions that require a simple majority of votes, the general meeting can make valid decisions only with the participation of shareholders with the right to vote, who own the main part of the authorized capital.</p> <p>10.2 In the event that the general meeting has to resolve issues related to changes in the statute, actions that cause a fundamental change in the subject of activity or a significant change in the rights of shareholders, appointment of liquidators and criteria for liquidation, transformation, merger or division operations, the meeting may adopt valid decisions only if shareholders holding more than half of the votes are present at the meeting.</p> <p>10.3 If the general meeting cannot be convened due to the lack of quorum specified above, the meeting will be reconvened no later than 30 days later with the same agenda.</p>	<p>Neni 10 Kuorumi</p> <p>10.1 Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë shumicën e kuotave të kapitalit.</p> <p>10.2 Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje që kanë të bëjnë me modifikimin e statutit, veprime që sjellin ndryshimin thelbësor të objektit të aktivitetit ose një ndryshim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve, emërimin e likujduesve dhe kriteret e kryerjes së likujdimit, operacionet e transformimit, bashkimit apo ndarjes, asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë prezent personalisht ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e votave.</p> <p>10.3 Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.</p>
<p>Стаття 11 Прийняття рішень</p> <p>11.1 Загальні збори приймають рішення більшістю у три чверті голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні, про внесення змін до Статуту,</p>	<p>Article 11 Decision formulation</p> <p>11.1 The general meeting makes decisions by a three-quarters majority of the shareholders participating in the voting on amendments to the Statute, increase</p>	<p>Neni 11 Marrja e vendimeve</p> <p>11.1 Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kuotave të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose</p>




<p>збільшення або зменшення статутного капіталу, розподіл прибутку, реорганізацію та ліквідацію Товариства.</p> <p>11.2 Загальні збори приймають рішення більшістю голосів партнерів, що беруть участь у голосуванні, з інших питань, таких як</p> <p>a) визначення комерційної політики товариства</p> <p>b) призначення та звільнення адміністраторів</p> <p>c) призначення та звільнення ліквідаторів та уповноважених експертів з бухгалтерського обліку</p> <p>d) нагляд за реалізацією комерційної політики адміністраторами, включаючи підготовку річної фінансової звітності та звітів про результати діяльності;</p> <p>e) представлення інтересів підприємства в суді та в інших провадженнях проти адміністраторів</p> <p>f) затвердження процедурних правил проведення загальних зборів;</p> <p>11.3 Будь-яка поправка до Статуту повинна бути подана до НРК для того, щоб відобразити зміни у досьє компанії.</p>	<p>or decrease of the authorized capital, distribution of profit, reorganization and liquidation of the Company.</p> <p>11.2 General meetings make decisions by a majority vote of partners participating in voting on other issues, such as:</p> <p>a) determination of the company's commercial policy</p> <p>b) appointment and dismissal of administrators</p> <p>c) appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts</p> <p>d) supervision of the implementation of commercial policy by administrators, including the preparation of annual financial statements and reports on the results of operations;</p> <p>e) representing the interests of the company in court and in other proceedings against the administrators</p> <p>f) approval of procedural rules for holding general meetings;</p> <p>11.3 Any amendment to the Statute should be submitted to the National Qualifications Framework in order to reflect the changes in the company's file.</p>	<p>zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.</p> <p>11.2 Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si:</p> <p>a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;</p> <p>b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;</p> <p>c) emërimin edhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;</p> <p>d) mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;</p> <p>e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;</p> <p>f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;</p> <p>11.3 Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKB) për të pasqyruar ndryshimet në ekstraktin e shoqërisë.</p>
<p>Стаття 12 Адміністрація</p> <p>12.1 Адміністратор має права та повноваження щодо загального та спеціального управління Компанією в межах, встановлених Законом, цим Статутом та повноваженнями, що належать до компетенції зборів акціонерів.</p> <p>12.2 Адміністратором товариства призначається:</p>	<p>Article 12 Administration</p> <p>12.1 The administrator has rights and authority regarding the general and special management of the Company within the limits established by the Law, this Statute and the authorities that belong to the competence of shareholders' meetings.</p> <p>12.2 The administrator of the company is appointed:</p>	<p>Neni 12 Administrimi</p> <p>12.1 Administratorët kanë të drejtat dhe kompetencat për administrimin e përgjithshëm dhe të vecantë të Shoqërisë brenda limiteve që vendos Ligji, ky Statut dhe kompetencat që i përkasin asamblesë së ortakëve.</p> <p>12.2 Administrator i shoqërisë caktohet:</p>

<p>□ повнолітній, дієздатний громадянин Республіки Албанії, або громадянин України чи будь-якої іншої країни, призначений рішенням засновників компанії. Строк повноважень та їх обсяг, крім зазначених у Статуті, також визначаються рішенням засновників про призначення адміністратора.</p>	<p>□ an adult, capable citizen of the Republic of Albania, or a citizen of Ukraine or any other country, appointed by the decision of the founders of the company. The term of authority and their scope, in addition to those specified in the Statute, are also determined by the decision of the founders on the appointment of an administrator.</p>	<p>□ Nje person madhor, me zotesi juridike, shtetas i Republikes se Shqiperise, ose shtetas i Ukraines ose i ndonje shteti tjetet, i caktuar me vendim asambleje. Afati i kompetencës dhe fushëveprimi i tyre, përveç atyre të përcaktuara në kete Statut, jane te përcaktuara ne vendimin e asamblese për emërimin e një administratori.</p>
<p>Стаття 13 Права та обов'язки Адміністраторів</p> <p>Адміністратор має право та зобов'язаний</p> <p>a) Керувати діяльністю компанії шляхом реалізації політики, визначеної Загальними зборами</p> <p>b) представляти компанію</p> <p>c) забезпечувати ведення необхідних бухгалтерських книг та документів</p> <p>d) Підготовка та підписання річного звіту про фінансово-господарську діяльність, консолідованого звіту та звіту про результати діяльності, а також подання їх на затвердження Загальним зборам разом з пропозиціями щодо розподілу прибутку;</p> <p>e) Створює систему раннього попередження щодо подій, які загрожують існуванню компанії;</p> <p>f) подати заявку на реєстрацію та подати обов'язкові дані про компанію відповідно до Закону про Національний бізнес-центр;</p> <p>g) звітувати перед Загальними зборами про реалізацію бізнес-політики та здійснення угод, що мають особливе значення для діяльності компанії;</p> <p>h) приймати рішення, пов'язані зі зміною адреси/адрес компанії, в тому числі штаб-квартири;</p>	<p>Article 13 Rights and responsibilities of Administrators</p> <p>The Administrator has the right and is obliged to</p> <p>a) manage the company's activities by implementing the policy determined by the General Meeting</p> <p>b) represent the company</p> <p>c) ensure the maintenance of necessary accounting books and documents</p> <p>d) prepare and sign of the annual report on financial and economic activity, the consolidated report and the report on the results of operations, as well as submitting them for approval to the General Meeting together with proposals on the distribution of profit;</p> <p>e) create an early warning system for events that threaten the existence of the company;</p> <p>f) submit an application for registration and submit mandatory company data in accordance with the Law on the National Business Center;</p> <p>g) report to the General Meeting on the implementation of business policy and the implementation of agreements that are of particular importance for the company's activities;</p> <p>h) make decisions related to the change of address/addresses of the</p>	<p>Neni 13 Kompetencat e administratoreve</p> <p>Detyrimet e administratorëve:</p> <p>a) Të kyejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;</p> <p>b) Të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;</p> <p>c) Të kujdesen për mirëmbajtjen korrekte të dokumenteve dhe te librave kontabël te shoqërisë;</p> <p>d) Të përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;</p> <p>e) Të krijojnë një sistem kontrolli mbi rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;</p> <p>f) Të kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, si parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;</p> <p>g) Të raportojnë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;</p>

	company, including the headquarters;	h) Të marr vendime të cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e adresës/save te shoqërisë, duke përfshirë këtu dhe selinë qendrore;
<p>Стаття 14 Відповідальність Адміністратора</p> <p>14.1 Адміністратор несе відповідальність перед Товариством або третіми особами за збитки, завдані порушенням законодавства, Статуту або внаслідок помилок, допущених під час управління Товариством.</p> <p>14.2 Наслідки будь-якої незатвердженої Зборами угоди, яка завдає збитків Товариству, покладаються на Адміністратора та Акціонера, який уклав угоду, які несуть індивідуальну або солідарну відповідальність за відповідні наслідки, залежно від обставин.</p> <p>14.3 Крім того, що передбачено в загальних положеннях про фідучіарний обов'язок, відповідно до статей 14, 15, 17 і 18 Закону "Про підприємців і господарські товариства", адміністратор зобов'язаний</p> <p>a) сумлінно виконувати свої обов'язки, встановлені законом та статутом, в інтересах товариства в цілому, що включає в себе екологічну стійкість його діяльності</p> <p>b) здійснювати повноваження, надані йому законом та Статутом, лише у встановлених ними цілях;</p> <p>c) належним чином розглядати питання, що підлягають вирішенню;</p> <p>d) уникати фактичних та потенційних конфліктів між</p>	<p>Article 14 Responsibility of the Administrator</p> <p>14.1 The administrator is responsible to the Company or third parties for damages caused by violation of the legislation, the Statute or because of mistakes made during the management of the Company.</p> <p>14.2 The consequences of any agreement not approved by the Meeting, which causes losses to the Company, rest on the Administrator and the Shareholder who concluded the agreement, who are individually or jointly responsible for the relevant consequences, depending on the circumstances.</p> <p>14.3 In addition to what is provided for in the general provisions on fiduciary ability, in accordance with Articles 14, 15, 17 and 18 of the Law "On Entrepreneurs and Business Associations", the administrator is obliged to:</p> <p>a) conscientiously perform the duties established by law and the statute, in the interests of the company as a whole, which includes the environmental sustainability of its activities</p> <p>b) exercise the powers granted to him/her by the law and the Statute, only for the purposes established by them;</p> <p>c) properly consider issues to be resolved;</p> <p>d) avoid actual and potential conflicts between personal interests and company interests;</p>	<p>Neni 14 Pergjegjesite e Administratorit</p> <p>14.1 Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje te kryera gjatë administrimit të shoqërisë.</p> <p>14.2 Dëmet e shoqërisë qe rrjedhin nga marrëveshjet të cilat nuk janë të miratuara nga asambleja i ngarkohen administratorit dhe ortakut qe kane lidhur marrëveshjen, qe mund te jene idividualisht ose se bashku pergjegjes per pasojat perkatese, ne varesi te rrethanave.</p> <p>14.3 Me përjashtim të rasteve të parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit te besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:</p> <p>a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të vecantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;</p> <p>b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;</p> <p>c) të vleresojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;</p> <p>d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshem, të interesave personale me ata të shoqërisë;</p>

особистими інтересами та інтересами компанії; е) виконувати свої обов'язки з професіоналізмом та розумною ретельністю.	e) perform the duties with professionalism and reasonable diligence.	e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
Розділ IV Фінансовий рік	Section IV Financial year	Seksioni IV Viti Financiar
Стаття 15 Фінансовий рік Фінансовий рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня кожного календарного року. За винятком першого фінансового року, який починається з дати реєстрації компанії в Національному реєстраційному центрі і закінчується 31 грудня.	Article 15 Financial year The financial year begins January 1 and ends December 31 of each calendar year. Except for the first financial year, which begins from the date of the company's registration in the National Registration Center and ends December 31.	Neni 15 Viti Financiar Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më 31 Dhjetor të të njëjtit vit.
Стаття 16 Річний звіт 16.1 Адміністративний орган або, в залежності від обставин, експерт з бухгалтерського обліку подає річний фінансовий звіт протягом 3 (трьох) місяців після закінчення наступного фінансового року. 16.2 Звіт містить інформацію про витрати, доходи та будь-яку іншу фінансову інформацію про Товариство. 16.3 Асамблея затверджує баланс та фінансові рахунки Компанії протягом перших 6 місяців наступного фінансового року.	Article 16 Annual report 16.1 The administrative body or, depending on the circumstances, the accounting expert submits the annual financial report within 3 (three) months after the end of the next financial year. 16.2 The report contains information on expenses, income and any other financial information about the Company. 16.3 The Assembly approves the balance sheet and financial accounts of the Company during the first 6 months of the following financial year.	Neni 16 Raporti Vjetor 16.1 Organi administrativ ose, sipas rastit, eksperti kontabël paraqet raportin financiar vjetor brenda 3(tre) muajve të vitit ushtrimor pasardhës. 16.2 Raporti përmban informacione mbi shpenzimet, të ardhurat dhe cdo lloj informacioni financiar tjetër mbi shoqërinë. 16.3 Asambleja miraton bilancin dhe llogaritë financiare të ushtrimit brenda 6 muajve të pare në vitin ushtrimor pasardhës.
Розділ V Припинення діяльності - реструктуризація Компанії	Section V Termination of activity - restructuring of the Company	Seksioni V Prishja-riorganizimi i shoqërisë
Стаття 17 Припинення діяльності та ліквідація	Article 17 Termination of activity and liquidation	Neni 17 Prishja dhe likujdimi

<p>Товариство може бути ліквідоване в будь-який час за наступних обставин</p> <p>a) за рішенням Загальних зборів</p> <p>b) шляхом відкриття процедури банкрутства;</p>	<p>The company may be liquidated at any time under the following circumstances</p> <p>a) by decision of the General Assembly</p> <p>b) by opening a bankruptcy procedure;</p>	<p>Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në cdo kohë me:</p> <p>a) me vendim të Asamblesë së ortakëve;</p> <p>b) me hapjen e procedurave të falimentimit;</p>
<p>Стаття 18 Реструктуризація товариства Злиття-Поділ</p> <p>Товариство може бути поділене, злите на підставі рішення Загальних зборів акціонерів відповідно до правових положень, передбачених частиною IX Закону № 9901 від 14.04.2012 р. "Про підприємців та господарські товариства".</p>	<p>Article 18 Restructuring of the company Merger-Divide</p> <p>The company may be divided, merged based on the decision of the General Meeting of Shareholders in accordance with the legal provisions provided for in Part IX of Law No. 9901 dated April 14, 2012 "On Entrepreneurs and Business Associations".</p>	<p>Neni 18 Riorganizimi i shoqërisë</p> <p>Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."</p>
<p>Стаття 19 Правова основа</p> <p>Товариство здійснюватиме свою діяльність відповідно до цього Статуту та правових норм албанського законодавства.</p> <p>Якщо інше не передбачено в цьому Установчому договорі та Статуті, застосовуються положення Закону "Про підприємців та комерційні товариства", Цивільного кодексу та будь-якого іншого спеціального закону Республіки Албанія.</p>	<p>Article 19 Legal basis</p> <p>The company will carry out its activities in accordance with this Statute and the legal norms of Albanian legislation.</p> <p>Unless otherwise provided in this Constituent Agreement and the Statute, the provisions of the Law "On Entrepreneurs and Commercial Companies", the Civil Code and any other special law of the Republic of Albania should be applied.</p>	<p>Neni 19 Baza Ligjore</p> <p>Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.</p> <p>Për sa nuk parashikohet në këtë Akt Themelimi dhe Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe cildo ligj tjetër që aplikohet në Republikën e Shqipërisë.</p>
<p>Стаття 20 Спори</p> <p>Будь-який спір, що виникає або пов'язаний із застосуванням або тлумаченням цього Статуту, а також будь-який спір між Компанією та третіми особами, передається на розгляд до</p>	<p>Article 20 Disputes</p> <p>Any dispute arising out of or related to the application or interpretation of these Statute, as well as any dispute between the Company and third parties, should be submitted to the</p>	<p>Neni 20 Mosmarrveshjet</p> <p>Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për cdo mosmarrëveshje që mund të lind midis Shoqërisë dhe palës së tretë, do</p>

<p>Албанського суду в окрузі Тирана.</p>	<p>Albanian Court in the District of Tirana</p>	<p>të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.</p>
<p>Стаття 21 Копії</p> <p>Цей документ відредаговано в 1 (одному) оригінальному примірнику українською, албанською та англійською мовами.</p> <p>Прочитано, зрозуміло, затверджено та підписано акціонером-засновником.</p>	<p>Article 21 Copies</p> <p>This document is edited in 1 (one) original copy in Ukrainian, Albanian and English languages.</p> <p>Read, understood, approved and signed by the founding shareholder.</p>	<p>Neni 21 Kopjet</p> <p>Ky Dokument u redaktua në 1(nje) kopje origjinale në gjuhën ukrainase, shqip dhe anglisht.</p> <p>Lexuar, miratuar, konfirmuar dhe nënshkruar nga ortaku themelues.</p>
<p>АКЦІОНЕР-ЗАСНОВНИК</p> <p>ТОВ "Сільвер Скай Дайвінг"</p> <p>Виконавчий директор</p> <p> Сергій СЕЛІВЕРСТОВ</p>	<p>FOUNDING SHAREHOLDER</p> <p>"Silver Sky Diving" LLC</p> <p>Administrator</p> <p> Sergii SELIVERSTOV</p>	<p>ORTAKU THEMELUES</p> <p>"Silver Sky Diving" LLC</p> <p>Administratori</p> <p> Sergii SELIVERSTOV</p>